

برائے فوری اجراء

## بندوق اور غنڈہ گردی کی شدت انگیزی کے خلاف کارروائی کرنے کے اقدام کے حوالے سے برامپٹن وفاقی و صوبائی حکومتوں کے اعلان کی حمایت کرتا ہے

برامپٹن، آن (26 اگست 2019) - سٹی آف برامپٹن نے آج اونٹاریو میں بندوق اور غنڈہ گردی کی شدت انگیزی کے خلاف کارروائی کرنے کے اقدام کے حوالے سے وفاقی و صوبائی حکومتوں کے مشترکہ [اعلان](#) کو خوش آمدید کہا ہے۔

برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے ایک بڑے عوامی تحفظ کے خدشے کے طور پر، سٹی بندوق اور غنڈہ گردی کی شدت انگیزی کے خلاف ایک علاقائی طرز عمل اپنانے کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ برامپٹن ایک محفوظ شہر ہو۔ کونسل نے سٹی کے 2019 کے بجٹ میں کمیونٹی کے تحفظ کے پراجیکٹس کے لیے \$300,000 منظور کیے ہیں، بشمول نیبرہڈ واچ برامپٹن کو پورے شہر میں پھیلانے کے لیے حالیہ طور پر تقویض شدہ رقم۔

سٹی وفاقی حکومت کی جانب سے اونٹاریو کی گنز، گینگز اینڈ وائلنس ریڈکشن اسٹریٹجی میں آج کی جانے والی \$54 ملین کی سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہتا ہے، جو برامپٹن کو اس مسئلے سے نمٹنا جاری رکھنے میں مدد دے گی۔ گریٹر ٹورانٹو ایریا (GTA) میں بندوقوں سے متعلقہ جرائم کے لیے ضمانت کی سماعتوں اور کارروائیوں میں معاونت کے لیے پیل میں ایک نئی فائر آرم بیل ٹیم (Firearm Bail Team) کی تخلیق کے لیے سٹی پیل ریجنل پولیس اور صوبہ اونٹاریو کے ساتھ شراکت داری کے لیے تیار ہے۔

آج کا اعلان برامپٹن سٹی کونسل کی بندوق اور غنڈہ گردی کی سرگرمیوں کے مسئلے کے حوالے سے ایک شراکتی اور کلیاتی طرز عمل اختیار کرنے کی قرارداد سے مطابقت رکھتا ہے اور 18-21 اگست 2019 میں اوٹاوا میں منعقد ہونے والی ایسوسی ایشن آف اونٹاریو میونسپلٹی کانسٹیبلز کانفرنس میں کونسل کی حالیہ استدلالی کوششوں کا حصہ تھا۔

سٹی عوامی تحفظ کے پراجیکٹس کی تجویز دینے کے لیے پیل ریجنل پولیس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی توقع رکھتا ہے، جبکہ صوبہ GTA/گریٹر گولڈن ہارس شو (GGH) گن اینڈ گینگ فنڈ قائم کر رہا ہے، جو کمیونٹی کے تحفظ کے پراجیکٹس اور GTA اور گریٹر گولڈن ہارس شو میں شراکت داریوں کی معاونت کرنے پر مرکوز ہے۔ سٹی درخواست کے عمل کے حوالے سے مزید تفصیلات موصول ہونے اور اس فنڈنگ کے لیے متعلقہ درخواستیں دینے کی توقع رکھتا ہے۔

### اقتباسات

"ایک محفوظ شہر ہونا کونسل کے اس عہد کی ترجیحات میں سے ایک بنیادی ترجیح ہے اور ہم بہت عرصے سے اس چیز کی وکالت کر رہے ہیں کہ بندوق اور غنڈہ گردی کے مسائل صرف ٹورانٹو اور اوٹاوا میں ہی مخصوص نہیں ہیں۔ ہم فنڈنگ میں برامپٹن کے منصفانہ حصے کے لیے لڑتے رہے ہیں اور اس بات کو سراہتے ہیں کہ بل بلینر اور سلویا جونز کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد، برامپٹن کو اپنے شہر میں بندوق اور غنڈہ گردی کے خلاف لڑنے کے لیے یہ اہم فنڈنگ ملے گی۔ ہم برامپٹن کو رہنے، کام کرنے اور کھیلنے کے لیے ایک محفوظ شہر رکھنے کے لیے ضروری وسائل فراہم کرنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے۔"

- میئر پیٹرک براؤن

"برامپٹن میں بندوق اور غنڈہ گردی کے مسئلے سے لڑنے کے لیے حکومت کی تمام سطحوں سے شراکت داریاں، وقت اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ آج کا اعلان بندوق اور غنڈہ گردی کے ہماری کمیونٹی پر پڑنے والے منفی اثرات اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہمارے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے وقف ہیں کہ ہمارے نوجوانوں اور بچوں کے پاس رہنے کے لیے ایک محفوظ کمیونٹی موجود ہو۔"

- کونسلر چارمین ولیمز، چیئر آف کمیونٹی سیفٹی ایڈوائزر کی کمیٹی

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)